

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُفَّرَوْل

قابیں کی خدمت میں میں کاشارہ پیش خدمت ہے۔ گرو شہ شما و قدسے تا خیر سے حالہ ڈاک کیا جاسکا۔ جس کے لئے ہم معدودت خواہ ہیں۔ ثانیاً بازار میں کاغذ کی کمیابی کی وجہ سے پرچہ جس تعداد میں ہم شائع کرنا چاہتے تھے، وہ اتنی بڑی تعداد میں بروقت ممکن نہ ہو سکا۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس خصوصی شمارے کی ترسیل قابیں کے بھیجے ہوتے پتوں پر صفت کی جاتے گی۔ چنانچہ ہم حتیٰ المقدور کوشش کر رہے ہیں کہ اس خصوصی اشاعت پرچہ جلد از جلد پیس سے نیار کروا کر پرپرد ڈاک کرنے جائیں۔

بلادِ اسلامیہ کے ملاوہ اب یورپ اور امریکہ سے بھی اسلامی طرزی پھر کی طبا و اشاعت کا کام اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے کہ شاید پوری تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ اور تمام اشاعتی اور تبلیغی اداروں کی نظاہر وال مقصد و مصرف یہ ہے کہ وہ اسلام کا پیغام اطراف و اکناف عالم میں پہنچائیں اور اعلانے کلمۃ الحق کا فرضیہ سر انجام دیں۔ چونکہ رقم المحروف کا تعلق انہیں خدا مسلم القرآن کے تحت قائم شدہ قرآن الکریم سے ہے۔ جہاں پر اس قسم کا اسلامی طرزی پھر کثیر تعداد میں بذریعہ ڈاک پہنچتا ہے، چنانچہ ان مطبوعہ رسائل، جرائد اخبارات اور دعویٰ کتب کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ”پڑھنے“ کی بات میں اس لئے انہیں کہ رہا کہ ایک فرد کے لئے ان سب کو پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ بہر حال جہاں یہ امر قابلِ ستائش ہے کہ فرزندان اسلام و نیامیں ہر جگہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس کا رخیزیں حصہ لے سے ہیں۔ فی الحقيقة اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکردا

کرنا پاہیئے کہ اس نے اپنے دین میتن کی خدمت کا جذبہ دنیا بھر کے حمالک اور خطوں میں پھیلے ہوئے اہل حق کے دلوں میں ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیئے کہ آخر کیا وجد ہے کہ اتنے بڑے سکیل اور عالم گیر و عوqi اشاعتی پر گراموں کے باوجود اسلامی اقدار اور قرآنی تعلیمات پر عمل خود اسلامی حمالک میں روپ تشریز ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ان میں سے اکثر مسامعی کے علمبردار نہو و نہ اشوف اسلام کی سر بلندی کی بجائے کچھ دسرے پست ذہنی ہوت اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اخلاص نیت کی دولت سے فوازے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم لہم تقولوں مالا تفعلن کی دعید شدید کے مستحق قرار پائیں۔

قاریین کے علم میں بولا کر راقم الحروف فی برادرم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مقدمہ کتاب پھول کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے یہ تمام کتابیں انہن کے تحت شائع ہو چکی ہیں حال ہی میں موضوع کے ایک اور کتاب پچھے دعوت الی اللہ کا انگریزی ترجمہ محمد اللہ پا یہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ قرآن اکیدہ می سے منسلک ایک مالم دین، مولانا عبدالرحمن مرشد آبادی رنسنے اس کتاب پچھے کا ترجمہ عربی میں کیا ہے تو یہ ہے کہ یہ دونوں کتاب پچھے جلد ہی انہن کے تحت شائع ہو جائیں گے۔

البصار احمد